


## USAGE INSTRUCTIONS

---



Align the edge of the Secretlab Magnetic Headphone Hanger with the edge of the Secretlab MAGNUS Metal Desk as shown above. The headphone hanger should snap securely into place. You can attach it to either the front or sides of your desk. To avoid accidentally unseating your headphones, please refrain from leaning on the hanger.

**Maximum load capacity: 0.8 kg (1.7 lbs)**

### WARNING

#### STRONG MAGNET:


- Keep away from devices and products that can be damaged by strong magnetic fields (e.g., magnetic media such as computer disks, credit cards and tapes).
- Maintain a safe distance of 15 cm/ 6 inches from pacemakers and other implants. Please consult your medical practitioner or pacemaker manufacturer for more detailed information.
- Neodymium magnets are brittle. Avoid subjecting them to hard impacts to prevent breakage. If broken, dispose of pieces with care as they may be sharp.
- Exercise care when attaching the headphone hanger to your desk surface to avoid being pinched.



#### Need any help?

For additional support and full warranty terms and conditions, please scan the QR code or visit our website:  
[secretlab.co/support](https://secretlab.co/support)

## GEBRAUCHSANWEISUNG



Die Kante der Secretlab Magnetischen Kopfhörer-Halterung wie oben gezeigt an der Kante des Secretlab MAGNUS Metallschreibtischs ausrichten. Die Kopfhörer-Halterung sollte sicher einrasten. Sie kann entweder an der Vorderseite oder an den Seiten des Schreibtischs befestigt werden. Um ein versehentliches Herausfallen der Kopfhörer zu vermeiden, bitte nicht auf die Halterung lehnen.

**Maximale Tragfähigkeit: 0,8 kg**

### **WARNUNG**

#### **STARKER MAGNET:**


- Von Geräten und Produkten fernhalten, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können (z. B. magnetische Datenträger wie Computerdisketten, Kreditkarten und Tonbänder).
- Einen Sicherheitsabstand von 15 cm zu Herzschrittmachern und anderen Implantaten einhalten. Für genauere Informationen bitte an den Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers wenden.
- Neodym-Magnete sind spröde. Harte Stöße vermeiden, um ein Zerbrechen zu verhindern. Zerbrochene Teile müssen vorsichtig entsorgt werden, da sie scharf sein können.
- Beim Befestigen der Kopfhörer-Halterung an der Schreibtischoberfläche vorsichtig vorgehen, um ein Einklemmen zu vermeiden.



#### **Brauchen Sie Hilfe?**

Für zusätzliche Unterstützung und die vollständigen Garantiebedingungen bitte den QR-Code scannen oder unsere Website besuchen:  
[secretlab.eu/support](https://secretlab.eu/support)

## BRUGSVEJLEDNING



Flugt kanten af Secretlab Magnetiske Holder til Høretelefoner med kanten af Secretlab MAGNUS Metalbordet som illustreret ovenfor. Holderen skal klikkes på plads. Du kan fastgøre den enten på forsiden eller siderne af dit bord. For at undgå at dine hovedtelefoner ved et uheld falder af, bedes du undgå at læne dig mod holderen.

**Maksimal belastning: 0.8kg**


**⚠ ADVARSEL****⚡ KRAFTIGE MAGNETER**

- Hold produktet væk fra enheder og produkter, der kan blive beskadiget af stærke magnetfelter (f.eks. magnetiske enheder som computerdisketter, kreditkort og bånd).
- Hold en sikker afstand på 15 cm fra pacemakere og andre implantater. Kontakt din læge eller pacemakerproducent for mere detaljeret information.
- Neodymmagneter er skrøbelige. Undgå at udsætte dem for hårde stød for at forhindre brud. Hvis de går i stykker, skal du forsigtigt bortskaffe stykkerne, da de kan være skarpe.
- Vær forsigtig når du fastgører holderen til dit bord for, at undgå at blive klemt.

**Brug for hjælp?**

For ekstra vejledning og fulde garantibetingelser, skal du scanne QR-koden eller besøge vores hjemmeside:  
[secretlab.eu/da/support](https://secretlab.eu/da/support)

## INSTRUCCIONES DE USO



Alinea el borde del Soporte Magnético para Auriculares Secretlab con el borde del Escritorio Metálico Secretlab MAGNUS, como se muestra arriba. El soporte para auriculares debe encajar firmemente en su sitio. Puedes colocarlo en la parte frontal o en los laterales del escritorio.

Para evitar soltar accidentalmente los auriculares, no te apoyes en el soporte.

**Capacidad de carga máxima: 0,8 kg (1,7 lbs)**

### ADVERTENCIA

#### IMÁN POTENTE:


- Mantén lejos de dispositivos y productos que puedan resultar dañados por campos magnéticos intensos (por ejemplo, dispositivos magnéticos como discos duros de ordenador, tarjetas de crédito y cintas).
- Guarda una distancia de seguridad de 15 cm/ 6 pulgadas de los marcapasos y otros implantes. Consulta a tu médico o al fabricante del marcapasos para obtener información más detallada.
- Los imanes de neodimio son frágiles. Evita someterlos a impactos fuertes para evitar que se rompan. Si se rompen, desecha las piezas con cuidado, ya que pueden estar afiladas.
- Ten cuidado al fijar el soporte para auriculares a la superficie de tu escritorio para evitar pellizcarte.



#### ¿Necesitas ayuda?

Para obtener asistencia adicional y las condiciones completas de la garantía, escanea el código QR o visita nuestro sitio web: [secretlab.eu/es/support](https://secretlab.eu/es/support)

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Alignez le bord du support de casque magnétique Secretlab avec le bord du bureau en métal Secretlab MAGNUS comme indiqué sur la photo à gauche. Le support de casque doit se clipser solidement en place. Vous pouvez l'attacher à l'avant ou sur les côtés de votre bureau. Pour éviter de détacher accidentellement vos écouteurs, veuillez éviter de vous appuyer sur le support.

**Capacité de charge maximale : 0,8 kg**

## AVERTISSEMENT

### MAGNET PUISSANT :


- Tenez à l'écart des appareils et produits pouvant être endommagés par des champs magnétiques puissants (par exemple, les supports magnétiques tels que les disques d'ordinateur, les cartes de crédit et les bandes).
- Maintenez une distance de sécurité de 15 cm des stimulateurs cardiaques et autres implants. Veuillez consulter votre médecin ou le fabricant de votre stimulateur cardiaque pour plus d'informations.
- Les aimants en néodyme sont fragiles. Évitez de les exposer à des impacts violents pour prévenir les cassures. En cas de rupture, jetez les morceaux avec précaution, car ils peuvent être tranchants.
- Faites preuve de prudence lorsque vous attachez le support de casque à la surface de votre bureau pour éviter de vous pincer.



#### Avez-vous besoin d'aide ?

Pour un support supplémentaire et visionner les termes et conditions de la garantie, veuillez scanner le code QR ou visiter notre site web : [secretlab.eu/support](https://secretlab.eu/support)

## ISTRUZIONI D'USO



Allineare il bordo del Gancio Magnetico per Cuffie Secretlab con il bordo della Secretlab MAGNUS Metal Desk come mostrato sopra. Il gancio per cuffie dovrebbe fissarsi in maniera sicura. È possibile fissarlo sia alla parte anteriore che posteriore della scrivania. Per evitare di far cadere accidentalmente le cuffie, evitare di poggiarsi al gancio.

**Capacità massima di carico: 0,8 kg (1,7 lbs)**


**⚠ ATTENZIONE****⚡ MAGNETE POTENTE:**

- Tenere lontano da dispositivi e prodotti che possono essere danneggiati da campi magnetici molto forti (es. media magnetici come dischi per computer, carte di credito e nastri).
- Mantenere una distanza di sicurezza di 5 cm/ 6 pollici da pacemaker e altri impianti. Consultare il medico o il produttore del pacemaker per maggiori informazioni.
- I magneti in neodimio sono fragili. Evitare di sottoporli a forti impatti per evitarne la rottura. Se rotti, smaltire con cura i pezzi, perché potrebbero essere affilati.
- Fare attenzione quando si fissa il gancio per cuffie alla superficie della scrivania, per evitare di pizzicarsi le dita.

**Hai bisogno di aiuto?**

Per maggiore assistenza e i termini e condizioni completi della garanzia, scansiona il codice QR o visita il nostro sito web:  
**[secretlab.eu/it/support](https://secretlab.eu/it/support)**

## GEBRUIKSIINSTRUCTIES



Breng de rand van de Secretlab Magnetic Koptelefoon Hanger op één lijn met de rand van de Secretlab MAGNUS Metalen Bureau, zoals hierboven afgebeeld. De koptelefoon hanger klikt stevig vast. Je kunt hem zowel aan de voorkant als aan de zijkanten van je bureau bevestigen.

Leun niet op de hanger om te voorkomen dat je koptelefoon per ongeluk loskomt.

**Maximaal draagvermogen: 0,8 kg (1,7 lbs)**

## WAARSCHUWING

### STERKE MAGNEET:


- Blijf uit de buurt van apparaten en producten die beschadigd kunnen raken door sterke magnetische velden (bijv. magnetische media zoals computerschijven, creditcards en tapes).
- Bewaar een veilige afstand van 15 cm tot pacemakers en andere implantaten. Raadpleeg je arts of de fabrikant van de pacemaker voor meer informatie.
- Neodymium magneten zijn broos. Stel ze niet bloot aan harde schokken om breuk te voorkomen. Als ze breken, gooi ze dan met zorg weg omdat ze scherp kunnen zijn.
- Wees voorzichtig wanneer je de koptelefoon hanger aan je bureau bevestigt om te voorkomen dat je bekneld raakt.



### Heb je hulp nodig?

Voor extra ondersteuning en volledige garantievoorwaarden, scan de QR-code of bezoek onze website:  
[secretlab.eu/nl/support](https://secretlab.eu/nl/support)

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Dopasuj krawędź Magnetycznego Stojaka na Słuchawki Secretlab do krawędzi Metalowego Biurka Secretlab MAGNUS Metal Desk w sposób jaki wskazano powyżej. Stojak na słuchawki powinien bezpiecznie zatrzasnąć się w miejscu. Możesz go dołączyć albo do przodu, albo do boków biurka. Aby uniknąć przypadkowego zdejmowania słuchawek, prosimy nie opierać się o stojak.

**Maksymalny udźwig: 0.8 kg (1.7 lbs)**

**⚠ UWAGA****⚡ MOCNE MAGNESY:**


- Trzymaj go z dala od urządzeń i produktów, które mogą zostać uszkodzone przez mocne pole magnetyczne (np. magnetyczne nośniki danych takie jak dyskietki komputerowe, karty kredytowe i taśmy magnetofonowe).
- Utrzymuj bezpieczną odległość 15 cm/ 6 cali od rozruszników serca i innych implantów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o konsultację z lekarzem lub z producentem rozrusznika serca.
- Magnesy neodymowe są kruche. Unikaj poddawania ich mocnym uderzeniom, aby zapobiec ich pęknięciu. Jeżeli pękną, ostrożnie wyrzuć ich ostre odłamki.
- Stojak na słuchawki dołączaj do biurka ostrożnie, aby uniknąć przytrzaśnięcia.

**Potrzebujesz pomocy?**

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie i pełny regulamin gwarancji, prosimy zeskanować kod QR, albo odwiedzić naszą stronę internetową: [secretlab.eu/pl/support](https://secretlab.eu/pl/support)



## BRUKSANVISNING



Placera kanten på Secretlab Magnetisk hörlurshållare mot kanten på Secretlab MAGNUS skrivbord i metall som på bilden ovan. Hörlurshållaren ska snäppa fast ordentligt. Den kan fästas antingen på framsidan eller på sidorna av skrivbordet. För att undvika att hörlurarna lossnar av misstag bör du avstå från att luta dig mot hörlurshållaren.

**Maximal lastkapacitet: 0,8 kg**

## VARNING

### STARK MAGNET:


- Håll borta från apparater och produkter som kan skadas av starka magnetiska fält (t.ex. magnetiska medier som hårddiskar, kreditkort och kassetband).
- Håll ett säkerhetsavstånd på 15 cm från pacemakers och andra implantat. Kontakta din läkare eller tillverkaren av pacemakern för mer detaljerad information.
- Neodymmagneter är spröda. Undvik att utsätta dem för hårda stötar för att förhindra att de går sönder. Om magneterna går sönder ska de bortskaffas försiktigt eftersom de kan vara vassa.
- Var försiktig när du fäster hörlurshållaren på skrivbordet för att undvika klämskador.



#### Behöver du hjälp?

För ytterligare support och fullständiga garantivillkor kan du skanna QR-koden eller besöka vår webbplats:  
[secretlab.eu/sv/support](https://secretlab.eu/sv/support)

## 使用方法



Secretlabマグネット式ヘッドフォンハンガーの端を、図に示す要領でSecretlab MAGNUSメタルデスクの端に合わせます。ヘッドフォンハンガーはぴったりと所定の位置に収まるはずですが、デスクの前面、または側面に取り付けられます。ヘッドフォンを誤ってずらさないようにするため、ハンガーに寄りかからないでください。

**最大積載量: 0.8 kg (1.7 lbs)**

## 警告

### U 強力な磁石:


- 強力な磁場で損傷を受けるデバイスや製品から遠ざけてください（コンピューターディスク、クレジットカード、テープなどの磁気メディア）。
- ペースメーカーやその他のインプラントから、15 cm/6 inの安全な距離を保ってください。詳細情報は、医者またはペースメーカーの製造元までお問合せください。
- ネオジム磁石は繊細です。破損を防ぐため、強い衝撃を与えないでください。破損した場合は、鋭い破片を注意深く廃棄してください。
- ヘッドフォンハンガーをデスクの表面に取り付ける場合は、手や指が挟みこまれないように注意してください。



### サポートが必要な場合

サポートが必要な場合又は商品保証については、QRコードをスキャンするか、当社ウェブサイトをご覧ください：  
[secretlab.co/support](https://secretlab.co/support)

## 사용 지침



위 그림과 같이 Secretlab 마그네틱 헤드폰 행거의 가장자리를 Secretlab MAGNUS 메탈 데스크의 가장자리와 정렬합니다. 헤드폰 행거가 제자리에 단단히 고정되어야 합니다. 책상 전면 또는 측면에 부착할 수 있습니다. 실수로 헤드폰이 떨어지지 않도록 행거에 기대지 마세요.

**최대 적재 용량: 0.8kg(1.7파운드)**

## ⚠ 경고

### ⚡ 강력한 자석:

- 강한 자기장으로 손상될 수 있는 장치나 제품(예: 컴퓨터 하드 드라이브, 신용카드, 카세트 테이프)은 가까이 두지 마십시오.
- 심박조율기 및 기타 임플란트에서 15cm/6인치 이상의 안전 거리를 유지하세요. 자세한 내용은 의료진 또는 심박조율기 제조업체에 문의하세요.
- 네오디뮴 자석은 깨지기 쉽습니다. 파손을 방지하기 위해 강한 충격을 가하지 마세요. 파손된 경우 날카로울 수 있으므로 조각을 조심해서 폐기하세요.
- 헤드폰 걸이를 책상 표면에 부착할 때는 끼이지 않도록 주의하세요.




### 도움이 필요하신가요?

추가 지원 및 전체 보증 약관을 보려면 QR 코드를 스캔하거나 웹사이트를 방문하세요:

[secretlab.co/support](https://secretlab.co/support)

## PETUNJUK PENGGUNAAN



Sejajarkan ujung Gantungan Headphone Magnetik Secretlab dengan ujung Meja Logam Secretlab MAGNUS seperti yang ditunjukkan di atas. Gantungan headphone harus terpasang dengan pas pada tempatnya. Anda bisa memasangkannya di bagian depan atau samping meja Anda. Untuk menghindari headphone terlepas secara tidak sengaja, jangan bersandar pada gantungan.

**Kapasitas beban maksimum: 0,8 kg (1,7 lbs)**

## ⚠ PERINGATAN

### ⚡ MAGNET KUAT:


- Jauhkan dari perangkat dan produk yang dapat rusak akibat medan magnet yang kuat (misalnya, media magnetik seperti disk komputer, kartu kredit, dan kaset).
- Pertahankan jarak aman 15 cm dari alat pacu jantung dan implan lainnya. Harap konsultasikan dengan praktisi medis atau produsen alat pacu jantung Anda untuk informasi lebih lanjut.
- Magnet neodmium bersifat rapuh. Hindari benturan keras untuk mencegah kerusakan. Jika pecah, buang pecahannya dengan hati-hati karena mungkin tajam.
- Berhati-hatilah saat memasang gantungan headphone ke permukaan meja agar tidak terjepit.



### Butuh bantuan?

Untuk dukungan tambahan dan syarat serta ketentuan garansi yang lengkap, silakan pindai kode QR atau kunjungi situs web kami: [secretlab.co/support](https://secretlab.co/support)

## คำแนะนำการใช้งาน



จัดแนวขอบของที่แขวนหูฟังแม่เหล็ก Secretlab กับขอบโต๊ะ Secretlab MAGNUS ตามที่แสดงในภาพด้านบน ที่แขวนหูฟังจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา คุณสามารถติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังของโต๊ะของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้หูฟังหลุดจากที่แขวน โปรดหลีกเลี่ยงการพียงที่แขวนหูฟัง

**รองรับน้ำหนักสูงสุด: 0.8 กก.**

## ⚠ คำเตือน

### ⚡ แม่เหล็กแรงสูง:


- เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่อาจเสียหายจากสนามแม่เหล็กแรงสูง (ตัวอย่าง: สื่อแม่เหล็ก เช่น แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์ บัตรเครดิต และเทป)
- รักษาระยะห่างอย่างปลอดภัย 15 ซม./ 6 นิ้ว จากเครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ฝังตัวอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- แม่เหล็กนีโอไดเมียมมีความเปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างแรงเพื่อป้องกันการแตกหัก หากแตกหัก ควรทิ้งเศษส่วนอย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจมีคม
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อยึดที่แขวนหูฟังกับพื้นผิวโต๊ะของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการหนีบ



### ต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมและเงื่อนไขการรับประกัน  
โปรดสแกน QR code หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:  
[secretlab.co/support](https://secretlab.co/support)

## تعليمات الاستخدام



حاذ بين حافة سماعة الرأس المغناطيسية من Secretlab وحافة مكتب Secretlab MAGNUS المعدني كما هو موضح أعلاه. ينبغي أن تستقر حمالة سماعة الرأس بإحكام في مكانها. يمكن تثبيتها إما في الجهة الأمامية للمكتب أو على جانبه. لتجنب عدم استقرار سماعة الرأس دون قصد، يرجى تجنب الاتكاء على الحمالة.

قدرة التحميل القصوى: 0.8 كجم (1.7 رطل)

## تحذير ⚠

## U مغناطيس قوي:

- ابتعد دائمًا عن الأجهزة والمنتجات التي قد تتلف بفعل المجالات المغناطيسية القوية (على سبيل المثال: الوسائط المغناطيسية، مثل أقراص الكمبيوتر وبطاقات الائتمان وأشرطة التسجيل).
- حافظ على مسافة آمنة 15 سم/6 بوصات بعيدًا عن الناظمت القلبية والأجهزة الأخرى المزروعة في الجسم. يرجى استشارة ممارس طبي أو مصنع ناظمت قلبية للاطلاع على مزيد من المعلومات التفصيلية.
- مغناط النيوديميوم سهلة الكسر. تجنب تعريضها لصدمات عنيفة لمنع كسرها. إذا انكسرت، فتخلص من القطع المكسورة بحرص؛ فربما تكون حادة.
- توخَّ العناية عند تثبيت حمالة سماعة الرأس بسطح المكتب؛ لتجنب التعرض للقرص.

## تحتاج مساعدة؟

للحصول على مزيد من الدعم والاطلاع على أحكام وشروط الضمان بالكامل، يرجى إجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة QR أو زيارة موقعنا على الويب: [secretlab.co/support](https://secretlab.co/support)

